


# tip doc

**Untersuchung zum Ausschluss von Keimen**

**Examination to rule out germs**

**Examen visant à exclure la présence de germes**

**Badanie w celu wykluczenia zarazków**





DEUTSCH  
ENGLISCH  
FRANZÖSISCH  
POLNISCH

Jede/r Patient/in, die/der in unserem Krankenhaus aufgenommen wird, wird auf ansteckende Keime untersucht. Um mögliche Keime auszuschließen, müssen an folgenden Stellen des Körpers Abstriche genommen werden:

Every patient who is admitted to our hospital is tested for contagious germs. In order to rule out the presence of any possible germs, smears are taken from the following points on the body:

Chaque patient(e) pris(e) en charge dans notre hôpital sera examiné(e) afin de détecter l'éventuelle présence de germes contagieux. Dans le but d'exclure cette possibilité, des frottis doivent être effectués aux endroits du corps indiqués ci-dessous:

Każdy pacjent, który jest przyjmowany do naszego szpitala, jest badany pod kątem bakterii powodujących choroby zakaźne. W celu wykluczenia ewentualnych bakterii, z poniżej wymienionych miejsc na ciele muszą zostać pobrane wymazy:



**BUS**  
Bild und Sprache e.V.

© Bild und Sprache e.V.  
keine Gewähr  
[www.medi-bild.de](http://www.medi-bild.de)  
[info@medi-bild.de](mailto:info@medi-bild.de)

Dieses Informationsblatt  
wurde gefördert von der  
Krankenhausgesellschaft  
Nordrhein-Westfalen e. V.

Обследование с целью исключения наличия микробов

Pregled u svrhu isključenja klica

Kontrolli për të përjashtuar mikrobet

Control pentru certificarea absenței germenilor patogeni

Hastada bakteri olup olmadığından saptanması muayenesi

RUSSISCH  
SERBISCH  
ALBANISCH  
RUMÄNISCH  
TÜRKISCH




Каждого/Каждую пациента/пациентку обследуют перед принятием в нашу больницу на наличие заразных микробов. Чтобы исключить наличие микробов, необходимо взять мазки со следующих частей тела:

Svaki pacijent/ica koji bude primljen u našu bolnicu, biće pregledan na zarazne klice. Da bi se moguće klice mogle isključiti, moraju se uzeti brisovi na određenim mestima na telu:

Çdo pacient/e që pranohet në spitalin tonë, kontrollohet nëse ka mikrobe ngjitetëse. Për të përjashtuar mundësinë e mikroveve, duhet të merret dhe të analizohet mostra e cipës ose mukozës në këto pjesë të trupit:

Fiecare pacient/pacientă, care este internat în spitalul nostru va fi supus controlului pentru depistarea germenilor patogeni. Pentru a exclude existența germenilor, se vor colecta froturi din următoarele zone:

Hastanemize yatan her hasta, kendisinde bulasıçı bakteri veya virüslerin olup olmadığını tespit için muayene edilir. Bu muayene için vücutun aşağıda belirtilen yerlerinden bakteriyolojik sürüntü örneği alınmaktadır:



**فحص للتأكد من عدم وجود الجراثيم**  
 آزمایش برای اطمینان از این مورد که میکروبی موجود نیست  
**جراثیم کے اخراج کا معائنہ**



ARABISCHE




FARSI

URDU

یتم فحص کل مريض نستقبله في مشفانا للتأكد من عدم حمل جراثيم أمراض معدية. ولمعرفة ذلك، فلا بد منأخذ عينات من مناطق الجسم التالية:

ما بروی هر بیماری کہ در بیمارستان ما پذیرفته می شود، جہت تشخیص میکروب ہائی و اگری آزمایش انجام می دھیم۔ برای اطمینان از این مورد که میکروبی موجود نیست، باید از نقاط مختلف بدن به شرح زیر نمونه برداری شود:

ہر مريض / مريضہ جو ہمارے ہسپتال میں داخل / بیکارڈ ہوتا ہے، اس میں تھوڑت کے جراثیم کا معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ جراثیم کا خاتمه کیا جائے، اس لیے جسم کے مندرجہ ذیل حصوں کا نمونہ لیا جاتا ہے



**BUS**  
 Bild und Sprache e.V.

© Bild und Sprache e.V.  
 keine Gewähr  
[www.medi-bild.de](http://www.medi-bild.de)  
[info@medi-bild.de](mailto:info@medi-bild.de)

Dieses Informationsblatt  
 wurde gefördert von der  
 Krankenhausgesellschaft  
 Nordrhein-Westfalen e. V.